



## اگر تو نہ سکھائے، تو کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا، تو وہ جو شکار روک کر رکھے، اسے کھاؤ

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں سکھائے، تو کتوں کو بسم اللہ پڑھ کر (شکار پر) چھوڑتا ہوں اور وہ شکار کو روک کر رکھتے ہیں (تو اس بارے آپ نے کیا خیال کیا؟) آپ نے فرمایا: اگر تم نہ سکھائے، تو کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا، تو وہ جو شکار روک کر رکھے اسے کھاؤ، میں نے عرض کیا: اگر کتے شکار کو مار ڈالیں تو؟ آپ نے فرمایا: (ہاں) اگر چہ مار ڈالیں جب تک اس کے ساتھ (شکار کرنے میں) دوسرا کتا شریک نہ ہو، میں نے عرض کیا کہ ہم بے تیر یا لکڑی سے شکار کرتے ہیں (اس کے بارے کیا خیال ہے؟) آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی دھاراس کو زخمی کر کے پھاڑ ڈالے، تو کھاؤ، لیکن اگر ان کے عرض سے شکار مارا جائے، تو اسے نہ کھاؤ (یعنی وہ مردار ہے) عدی سے شعبی کی روایت بھی اسی جیسی ہے اس میں ہے: الا یہ کہ کتا اس میں سے کھالے، اگر اس نے کھالیا، تو پھر نہ کھاؤ؛ کیوں کہ یہاں یہ ڈر ہے کہ اس نے وہ شکار اپنے لیے روکا ہو، اسی طرح اگر اس کے ساتھ دیگر کتے بھی مل جائیں، تو بھی نہ کھاؤ؛ کیوں کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، باقیوں پر نہیں ہے اسی روایت میں یہ بھی ہے: اگر تم نے اپنے سکھائے، تو کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا اور اس نے تمہارے لیے شکار روک رکھا اور تم نے اسے زندہ پایا، تو اس کو ذبح کر لو اور اگر اس حالت میں پاؤں کے کتے نے اس کے مار دیا ہو، لیکن اس میں سے کھایا نہ ہو، تو بھی اس کو کھا لو؛ کیوں کہ کتے کا پکڑنا ذبح کرنے کے حکم میں ہے اس میں یہ بھی ہے: جب تیر چلاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو اس میں یہ بھی ہے: اگر وہ (شکار) تم سے ایک یا دو دن - اور ایک روایت کے مطابق دو یا تین دن - غائب رہا - اور اس پر تمہارے تیر کے نشان کے علاوہ کوئی نشان نہ ہو، تو اگر چاہو تو کھا سکتے ہو البتہ اگر اسے پانی میں ڈوبا ہو یا پاؤں تو نہ کھاؤ؛ کیوں کہ تجھے یہ معلوم نہیں کہ اسے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے موت آئی ہے یا تیرا تیر لگنے سے؟

[صحیح] [متفق علیہ]

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے سداہائے، تو کتوں کے شکار کے بارے میں پوچھا، جن کو مالک نے شکار کے لیے سداہا رکھا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو چھوڑتے وقت 'بسم اللہ' پڑھی تھی اور ان کے ساتھ (شکار کے عمل میں) کوئی دوسرا کتا شریک نہیں ہوا، تو ان کے پکڑے، تو کتے کو کھا لو، اگر ان کے ساتھ کوئی اور کتا شریک ہو گیا، تو نہ کھاؤ؛ کیوں کہ تم نے اپنے کتے پر 'بسم اللہ' پڑھی تھی، دوسرے پر نہیں ہے اسی طرح اگر تیر چلاؤ اور اس کا پھل شکار کے جسم میں داخل ہو جائے اور خون بہنے لگے، تو اس کو بھی کھا لو؛ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو 'بسم اللہ' پڑھ کر چھوڑا گیا ہو البتہ اگر تیر چوڑائی میں لگے اور شکار مر جائے، تو مت کھاؤ، کیوں کہ وہ چوٹ لگنے سے مرے کی وجہ سے 'متردیہ' (اوپر سے گر کر مرنے والا جانور) اور نطیحہ (سینگ لگ کر مرنے والا جانور) کے حکم میں ہوگا جب کسی نے شکار کے پیچھے کتا دوڑایا اور شکار کو زندہ پایا، اس کے کتے نے جان سے نہیں مارا تھا، تو ذبح کرنا ضروری ہوگا اور شکار حلال ہوگا، گرچہ اسے پکڑنے میں دوسرا کتا بھی شریک رہا ہو انہوں نے 'بسم اللہ' کہہ کر تیر سے شکار کرنے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے اس کے شکار کو کھانے کا حکم دیا اگر شکار ایک یا دو دن غائب رہے کہ بعد ملے اور اس کے جسم پر اس کے تیر کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہ ہو، تو اس کا کھانا جائز ہوگا اگر اسے پانی میں ڈوبا ہو یا پاؤں، تو نہ کھاؤ، کیوں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ پانی میں ڈوبنے سے مرے یا تیر لگنے سے



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

